

Q.7. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression. (10)

افریقہ کے مفکر نے ایک بار کہا تھا جب انگریز افریقہ آئے تو ان کے پاس جدت تھی اور ہمارے پاس زمین . وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں آپ کو ترقی دینے آئے ہیں۔ ہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھ کھلی تو ہمارے پاس جدت تھی اور ان کے پاس ہماری زمین . اسی طرح جب سوشل نیٹ ورک سائنس آئی، تو ان کے پاس فیس بک اور واٹس ایپ تھے۔ انہوں نے کہا یہ مفت ہے۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب آنکھ کھلی تو ہمارے پاس فیس بک اور واٹس ایپ تھے اور ان کے پاس ہماری آزادی اور ذاتی معلومات . پس جب بھی کوئی چیز مفت ہوتی ہے تو ہمیں اپنی آزادی دے کر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے!...

# NOA MOCK

## Translation.

An African thinker once said that when the British came to Africa, they had innovation and we had the land. They told us that they came to bring us progress, we closed our eyes. When we opened eyes, they had the land and we had their innovation. In the same way, with the advent of social media and modern science they brought facebook and whatsapp. They said that it is all free and we closed our eyes. When we opened eyes, we had Facebook and whatsapp, but they had our freedom and personal information. Whenever something is offered for free, we often end up paying the price by giving away our freedom.